

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  
(2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى  
مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ  
(6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ  
نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10)  
لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَآغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12)  
فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَ  
نَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَ زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَ فَلَا  
يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَ إِلَى  
السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ  
نُصِبَتْ (19) وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)  
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

~~~~~  
 (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَ كَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ

الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

حِسَابَهُمْ (26)

Has the story reached thee of the overwhelming (Event)? Some faces, that day, will be humiliated, labouring (hard), weary,—the while they enter the blazing fire,—the while they are given, to drink, of a boiling hot spring, no food will there be for them but a bitter Dhari' which will neither nourish nor satisfy hunger. (Other) faces that day will be joyful, pleased with their striving,—in a garden on high, where they shall hear no (word) of vanity: therein will be a bubbling spring: Therein will be couches (of dignity), raised on high, goblets placed (ready), and cushions set in rows, and rich carpets (all) spread out. Do they not look at the camels, how they are made?—And at the sky, how it is raised high?—And at the mountains, how they are fixed firm?— And at the earth, how it is spread out? Therefore do thou remind, for thou art one to remind. Thou art not one to manage (their) affairs. But if any turn away and disbelieve,— Allah will chastise him with a mighty chastisement. For to Us will be their return; then it will be for Us to call them to account.

کیا تمہیں اُس چھا جانے والی آفت (یعنی قیامت) کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے

اُس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں

گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہو گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اُس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اُس میں چشمے رواں ہوں گے، اُس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ (یہ لوگ نہیں مانتے) تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو (اے نبیؐ) نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔

البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔

क्या तुम्हें उस छा जानेवाली आफत (यानी क्रियामत) की खबर पहुँची है? कुछ चेहरे उस रोज़ खौफ़ज़दा होंगे, सख्त मशक्कत कर रहे होंगे, थके जाते होंगे, शदीद आग में झुलस रहे होंगे, खौलते हुए चशमे का

~~~~~

पानी उन्हें पीने को दिया जाएगा | खारदार सूखी घास के सिवा कोई खाना उनके लिए न होगा, जो न मोटा करे, न भूक मिटाए | कुछ चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे | अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे, आली मक़ाम जन्नत में होंगे, कोई बेहूदा बात वे वहाँ न सुनेंगे, उसमें चश्मे रवाँ होंगे, उसके अन्दर ऊँची मस्नदें होंगी, सागर रखे हुए होंगे, गाव-तकियों की कतारें लगी होंगी और नफ़ीस फ़र्श बिछे हुए होंगे | (ये लोग नहीं मानते) तो क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए? आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए? और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई? अच्छा तो (ऐ नबी) नसीहत किए जाओ, तुम बस नसीहत ही करनेवाले हो, कुछ इनपर ज़ब्र करनेवाले नहीं हो | अलबत्ता जो शख्स मुँह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह उसको भरी सज़ा देगा | इन लोगों को पलटना हमारी तरफ़ ही है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही ज़िम्मे है

|